

Esperanto (Esperanto)

Enkondukaj ritoj

Signo de la kruco

En la nomo de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito.

Amen

Saluto

La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kaj la amo de Dio, kaj la komuneco de la Sankta Spirito estu kun vi ĉiuj.

Kaj kun via spirito.

PENITENTA AKTO

Fratoj (fratoj kaj fratinoj), ni agnosku niajn pekojn, Kaj do preparu nin por festi la sanktajn misterojn.

Mi konfesas ĉiopova Dio Kaj al vi, miaj fratoj kaj fratinoj, ke mi multe pekis, en miaj pensoj kaj laŭ miaj vortoj, en tio, kion mi faris kaj en tio, kion mi malsukcesis fari, Tra mia kulpo, Tra mia kulpo, per mia plej serioza kulpo; Tial mi petas Blessed Mary ĉiam-virginon, ĉiuj anĝeloj kaj sanktuloj, kaj vi, miaj fratoj kaj fratinoj, preĝi por mi al la Sinjoro, nia Dio.

Ĉiopova Dio kompatu nin, pardonu al ni niajn pekojn, kaj venigu nin al eterna vivo.

Amen

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صليب کی علامت

باپ ، اور بیٹو اور روح القدس ک نام پر

آمین

سلام

مار خداوند يسوع مسيح کا فضل ، اور خدا کی محبت ، اور روح القدس کی ميل جول آپ سب ک ساتھ ر ین

اور اپنی روح ک ساتھ

تذليل کا ايڪٽ

بهائيو (بهائيو اور ٻين) ، آئي م ايند گنا وون کو تسليم کریں ، اور اس طرح مقدس اسرار کو منان ک لئ خود کو تيار کریں

میں الا تعالیٰ سے اعتراف کرنا وون اور آپ ک لئ ، مير بهائيو اور ٻين ، ک میں نہ بت گنا کیا ، مير خیالات میں اور مير الفاظ میں ، میں نہ کیا کیا اور میں کیا کرنے میں ناکام را وون ، میری غلطی ک ذریعہ ، میری غلطی ک ذریعہ ، میری انتائی تکلیف د غلطی ک ذریعہ ؛ ل ذا میں مبارک مریم کو مینش ک ویرگین سے پوچھتا وون ، تمام فرشتہ اور سنت ، اور آپ ، مير بهائيو اور ٻين ، مير لئ خداوند مار خدا سے دعا کرنا

الا تعالیٰ م پر رحم کر ، مار گنا وون کو معاف کرو ، اور میں لازوال زندگی میں لائیں

آمین

Esperanto (Esperanto)

Kyrie

Sinjoro, kompatu.

Sinjoro, kompatu.

Kristo, kompatu.

Kristo, kompatu.

Sinjoro, kompatu.

Sinjoro, kompatu.

Gloria

Gloro al Dio en la plej alta, Kaj sur la tero paco al homoj de bona volo. Ni laŭdas vin, Ni benas vin, Ni adoras vin, Ni gloras vin, Ni donas al vi dankon pro via granda gloro, Sinjoro Dio, Ĉiela Reĝo, Ho Dio, ĉiopova Patro. Sinjoro Jesuo Kristo, nur naskita Filo, Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de la Patro, vi forprenas la pekojn de la mondo, kompatu nin; vi forprenas la pekojn de la mondo, ricevi nian preĝon; Vi sidas dekstre de la Patro, Kompatu nin. Por vi sola estas la Sanktulo, Vi sola estas la Sinjoro, Vi sola estas la plej alta, Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito, En la gloro de Dio la Patro. Amen.

Kolektu

Ni preĝu.

Amen.

Liturgio de la vorto

Unua legado

La Vorto de la Sinjoro.

Dankon al Dio.

Respondeca Psalmo

Urdu (اردو)

کیری

رب رحم کر

رب رحم کر

مسیح، رحم کرو.

مسیح، رحم کرو.

رب رحم کر

رب رحم کر

گلوڙيا

سب سد زياد خدا کي شان، اور زمين پراچھ لوگوں ک لي امن م تيري تعريف کرتے يں، م آپ کو برکت ديتے يں، م آپ کو پسند کرتے يں، م تيري تسبيح کرتے يں، م تيري عظيم شان ک لي تيرا شکر ادا کرتے يں، خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، خدا، قادر مطلق باپ خداوند يسوع مسيح، اکلوتا بيٺا، خداوند خدا، خدا کا بر، باپ کا بيٺا، آپ دنيا ک گناہوں کو دور کرتے يں، م پر رحم فرما آپ دنيا ک گناہوں کو دور کرتے يں، هاري دعا قبول کرو تم باپ ک دانہ اتھ بيٺھو، م پر رحم فرما. آپ ک لي اڪيلہ ي مقدس يں، صرف تُو ي رب صرف آپ ي اعلىٰ ترين يں حضرت عيسى علي السلام، روح القدس ک ساتھ، خدا باپ ک جلال ميں آمين جمع کریں

میں نمازيڙھن دو.

آمين

کلام کي کٺائي

پ لا پڙھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر .

ذمہ داری زبور

Esperanto (Esperanto)

Dua legado

La Vorto de la Sinjoro.

Dankon al Dio.

Evangelio

La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Legado de la Sankta Evangelio laŭ N.

Gloro al vi, ho Sinjoro

La Evangelio de la Sinjoro.

Laŭdo al vi, Sinjoro Jesuo Kristo.

Profesio de Kredo

Mi kredas je unu dio, la Patro Ĉiopova, fabrikisto de la ĉielo kaj tero, de ĉiuj aferoj videblaj kaj nevideblaj. Mi kredas je unu Sinjoro Jesuo Kristo, la sola naskita Filo de Dio, naskita de la patro antaŭ ĉiuj aĝoj. Dio de Dio, Lumo de lumo, Vera Dio de Vera Dio, naskita, ne farita, konsubstanca kun la Patro; Per li ĉio estis farita. Por ni viroj kaj por nia savo Li malsupreniris de la ĉielo, kaj per la Sankta Spirito estis enkarniĝinta de la Virgulino Maria, kaj fariĝis viro. Pro ni li estis krucumita sub Pontius Pilate, Li suferis morton kaj estis entombigita, kaj leviĝis denove en la tria tago konforme al la Skriboj. Li supreniris en la ĉielon kaj sidas dekstre de la Patro. Li venos denove en gloro juĝi la vivantojn kaj la mortintojn Kaj lia regno ne havos finon. Mi kredas je la Sankta Spirito, la Sinjoro, la donanto de la vivo, kiu eliras de la Patro kaj la Filo, kiu kun la Patro kaj la Filo estas adorataj kaj gloraj, kiu parolis tra la profetoj. Mi kredas je unu, sankta,

Urdu (اردو)

دوسری پڙهنا

رب کا کلام

خدا کا شکر

انجيل

رب آپ ک ساتھ و

اور اپنی روح ک ساتھ

ک مطابق مقدس انجيل س ایک N

پڙهنا

ا رب، تیری شان

خداوند کی انجيل

خداوند يسوع مسیح آپ کی ستائش

کریں

ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کا بنا، والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں میں سے میں ایک خداوند يسوع مسیح پر یقین رکھتا ہوں، خدا کا اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے پہلے باپ سے پیدا ہوا خدا سے خدا، روشنی سے روشنی، سچا خدا سے سچا خدا، پیدا ہوا، نہیں بنایا گیا، باپ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اس کے ذریعے تمام چیزیں بنی تھیں ہمارے آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اور آسمان سے نیچے آیا، اور روح القدس کے ذریعے کنواری مریم کا اوتار تھا، اور انسان بن گیا۔ ہماری خاطر اور پوٹینس پیلاطس کے تحت مصلوب ہوا، اس کی موت ہوئی اور اسے دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبارہ جی اٹھا صحیفوں کے مطابق اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا اور پھر جلال میں آئے گا زند اور مرد کا فیصلہ کرنا اور اس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہ ہوگی

Esperanto (Esperanto)

katolika kaj apostola eklezio. Mi
konfesas unu bapton pro pardono de
pekoj kaj mi antaŭĝojas pri la releviĝo
de la mortintoj kaj la vivo de la venonta
mondo. Amen.

Homilio

Universala Preĝo

Ni preĝas al la Sinjoro.

Sinjoro, aŭdu nian preĝon.

Liturgio de la Eŭkaristio

Oferto

Feliĉa estu Dio por ĉiam.

Preĝu, fratoj (gefratoj), ke mia ofero kaj
via eble estas akceptebla por Dio, la
ĉiopova patro.

La Sinjoro akceptu la oferon ĉe viaj
manoj pro la laŭdo kaj gloro de lia
nomo, Por nia bono kaj la bono de sia
tuta sankta preĝejo.

Amen.

Eŭkaristia Preĝo

La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Levu viajn korojn.

Ni levas ilin al la Sinjoro.

Ni danku la Sinjoron, nia Dio.

Ĝi pravas kaj justas.

Urdu (اردو)

میں روح القدس پر یقین رکھتا
ہوں، خداوند، زندگی دین والا، جو
باپ اور بیٹہ سہ نکلتا، جو باپ
اور بیٹہ کے ساتھ سجد اور جلالی
، جس نہ نبیوں کے ذریعہ کلام کیا
میں ایک، مقدس، کیتھولک اور
رسولی چرچ پر یقین رکھتا ہوں
میں گناہوں کی معافی کے لیے ایک
بپتسم کا اقرار کرتا ہوں اور میں
مردوں کے جی اٹھنے کا منتظر ہوں
اور آؤ، والی دنیا کی زندگی آمین
homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں

اے رب، ہماری دعا سن

یوکرست کی لیٹورجی

آفرٹری

خدا ہمیشہ کے لیے مبارک ہو

دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور بہنو)، کے

میری اور تمہاری قربانی ہو سکتا

اللہ کو قبول ہو قادر مطلق

باپ.

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے

اس کے نام کی تعریف اور جلال کے

لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور اس کے

تمام مقدس چرچ کی بھلائی

آمین

یوکرستک دعا

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

اپنے دلوں کو اٹھاؤ

م اُن کو رب کی طرف اٹھاتے

ہیں

آئیے ہم رب اپنے خدا کا شکر ادا

کریں

یہ صحیح اور منصفانہ

Esperanto (Esperanto)

Sankta, Sankta, Sankta Sinjoro Dio de Gastigantoj. Ĉielo kaj la tero estas plenaj de via gloro. Hosanna en la plej alta. Feliĉa estas li, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosanna en la plej alta.

La mistero de fido.

Ni proklamas vian morton, ho Sinjoro, kaj profesiu vian reviviĝon ĝis vi revenos. Aŭ: Kiam ni manĝas ĉi tiun panon kaj trinkas ĉi tiun tason, Ni proklamas vian morton, ho Sinjoro, ĝis vi revenos. Aŭ: Savu nin, savanto de la mondo, ĉar per via kruco kaj reviviĝo Vi liberigis nin.

Amen.

Komunuma Rito

Laŭ la ordono de la Savanto Kaj formita de dia instruado, ni kuraĝas diri:

Nia Patro, kiu arto en la ĉielo, sanktigata estu via nomo; Via regno venas, Via volo estos farita sur la tero kiel ĝi estas en la ĉielo. Donu al ni hodiaŭ nian ĉiutagan panon, kaj pardonu al ni niajn kulpojn, Dum ni pardonas tiujn, kiuj kulpas kontraŭ ni; kaj konduku nin ne en tenton, Sed savu nin de malbono.

Savu nin, Sinjoro, ni preĝas, de ĉiu malbono, Gracie donu pacon en niaj tagoj, ke, helpe de via kompatemo, Ni eble ĉiam estas liberaj de peko kaj sekura de ĉia mizero, Dum ni atendas la

Urdu (اردو)

پاک، مقدس، پاک رب الافواج
آسمان و زمین تیر جلال سے
معمور ہیں حسن اعلیٰ میں
مبارک و جو خداوند کے نام پر
آتا حسن اعلیٰ میں

ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے ہیں ا
رب! اور اپنی قیامت کا دعویٰ
کریں جب تک آپ دوبارہ نہ آئیں
یا: جب م یہ روٹی کھاتے ہیں اور
یہ پیالہ پیتے ہیں، م تیری موت کا
اعلان کرتے ہیں، ا رب، جب تک
آپ دوبارہ نہ آئیں یا: میں بچا،
دنیا کے نجات دہندے، آپ کی صلیب
اور قیامت کی طرف سے آپ نہ
میں آزاد کیا

آمین

اجتماعی رسم

نجات دہندے کے حکم پر اور خدائی
تعلیم کے ذریعے تشکیل دیا گیا ،
م یہ کذ کی جسارت کرتے ہیں:
مار باپ، جو آسمان پر ہیں،
مقدس تیرا نام ؛ تیری بادشاہی
آؤ ، آپ کی مرضی پوری ہو جائے
گی زمین پر جیسا کہ آسمان میں
آج کے دن میں ہماری روز کی
روٹی دے ، اور ہماری خطائیں معاف
فرما، جیسا کہ م ان لوگوں کو
معاف کرتے ہیں جو مار خلاف
گنا کرتے ہیں اور میں آزمائش
میں نہ ڈال، لیکن میں برائی سے
بچا

میں برائی سے نجات دے ، ا
رب، م دعا کرتے ہیں، م ربانی سے
مار دنوں میں امن عطا فرما، کہ
تیری رحمت سے م ہمیشہ گنا
سے آزاد ہو سکتے ہیں اور تمام

Esperanto (Esperanto)

benitan esperon kaj la alveno de nia
Savanto, Jesuo Kristo.

Por la regno, La potenco kaj la gloro
estas viaj nun kaj por ĉiam.

Sinjoro Jesuo Kristo, kiu diris al viaj
apostoloj: Pacon mi forlasas vin, mia
paco mi donas al vi, Ne rigardu niajn
pekojn, Sed sur la fido de via preĝejo,
kaj gracie koncedu ŝian pacon kaj
unuecon Konforme al via volo. Kiu vivas
kaj regas por ĉiam kaj ĉiam.

Amen.

La paco de la Sinjoro estu kun vi ĉiam.

Kaj kun via spirito.

Ni proponu unu la alian la signon de
paco.

Ŝafido de Dio, vi forprenas la pekojn de
la mondo, Kompatu nin. Ŝafido de Dio, vi
forprenas la pekojn de la mondo,
Kompatu nin. Ŝafido de Dio, vi forprenas
la pekojn de la mondo, donu al ni pacon.

Jen la Ŝafido de Dio, Jen li, kiu forprenas
la pekojn de la mondo. Feliĉaj estas tiuj
vokitaj al la vespermanĝo de la Ŝafido.

Sinjoro, mi ne indas ke vi eniru sub mian
tegmenton, sed nur diru la vorton kaj
mia animo resaniĝos.

La korpo (sango) de Kristo.

Amen.

Ni preĝu.

Urdu (اردو)

پريشانيون سد محفوظ جيسا ك م
مبارك اميد كا انتظار كرر
اور مار نجات دند ، يسوع
مسيح كى آمد

بادشاى ك لى ، طاقت اور جلال
آپ كا اب اور ميش ك لئ .
خداوند يسوع مسيح، جس ن آپ ك
رسولون سد كا: امن ميں آپ كو
جهوڙتا هون، اپنا امن ميں آپ كو
ديتا هون، مار گنا هون كو مت
ديكهوليكن آپ ك چرچ ك ايمان
پر، اور فضل سد اس امن اور اتحاد
عطا فرمائ، آپ كى مرضى ك
مطابق. جو ميش اور ابد تك زند
اور حكومت كرتا هين

آمين

خداوند كى سلامتى ميش آپ ك
ساته ر

اور اپنى روح ك ساته

آئي ايڪ دوسر كو امن كا نشان
پيش كريں

خدا ك بر ، تم دنيا ك گنا هون كو
دور كرتا هو، م پر رحم فرما. خدا
ك بر ، تم دنيا ك گنا هون كو دور
كرتا هو، م پر رحم فرما. خدا ك
بر ، تم دنيا ك گنا هون كو دور كرتا
هو، ميں امن عطا فرما.

خدا ك بر كو ديكهو، اس كو ديكهو
جو دنيا ك گنا هون كو ل جاتا
مبارك هين و لوگ جو بر ك
عشائى ك لى بلائ گئ هين

ا رب، ميں اس لائق ن هين هون
ك تم ميرى چهت ك نيچ داخل هو،
ليكن صرف لفظ ك و اور ميرى جان
ٿهيك و جائ گى

مسيح كا جسم (خون)

آمين

ميں نمازيڙهند هو.

Esperanto (Esperanto)

Amen.

Finantaj ritoj

Beno

La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Ke ĉiopova Dio benu vin, La Patro, kaj la Filo, kaj la Sankta Spirito.

Amen.

Maldungo

Eliru, la maso estas finita. Aŭ: Iru kaj anoncu la Evangelion de la Sinjoro. Aŭ: iru en paco, glorante la Sinjoron per via vivo. Aŭ: iru en paco.

Dankon al Dio.

Urdu (اردو)

آمين

اختتامی رسومات

برکت

رب آپ ک ساتھ و

اور اپنی روح ک ساتھ

قادر مطلق خدا آپ کو خوش رکھ ،
باپ، اور بیٹا، اور روح القدس

آمين

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم و گیا یا:

جاؤ اور خداوند کی انجیل کا اعلان

کرو یا: سکون سے جاؤ، اپنی

زندگی سے خداوند کی تمجید کرو

یا: سکون سے جاؤ

خدا کا شکر .

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC